

عبدیاہ

رب ادوم کی عدالت کرے گا

¹ ذیل میں وہ روایا قلم بند ہے جو عبدیاہ نے دیکھی۔ اُس میں وہ کچھ بیان کیا گا ہے جو رب قادر مطلق نے ادوم کے بارے میں فرمایا۔

هم نے رب کی طرف سے پیغام سنائے، ایک قاصد کو اقوام کے پاس بھیجا گیا ہے جو انہیں حکم دے، ”اُنہو! آؤ، ہم ادوم سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں۔“

² رب ادوم سے فرماتا ہے، ”میں تجھے قوموں میں چھوٹا بنا دوں گا، اور تجھے بہت حقیر جانا جائے گا۔

³ تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے۔ چونکہ تو چٹانوں کی درازوں میں اور بلندیوں پر رہتا ہے اس لئے تو دل میں سوچتا ہے، ’کون مجھے یہاں سے اتار دے گا؟‘

⁴ لیکن رب فرماتا ہے، ”خواہ تو اپنا گھومنسلا عقاب کی طرح بلندی پر کیوں نہ بنائے بلکہ اُسے ستاروں کے درمیان لگا لے، تو بھی میں تجھے وہاں سے اٹار کر خاک میں ملا دوں گا۔

⁵ اگر ڈاکورات کے وقت تجھے لُوث لیتے تو وہ صرف اُتا ہی چھین لیتے جتنا اُنہا کر لے جاسکتے ہیں۔ اگر تو انگور کا باع ہوتا اور مزدور فصل چتنے کے لئے آتے تو تھوڑا بہت اُن کے پیچھے رہ جاتا۔ لیکن تیرا انجمام اس سے کہیں زیادہ بُرا ہو گا۔

⁶ دشمن عیسَوَ^{*} کے کونے کونے کا کھوج لگا لگا کر اُس کے تمام پوشیدہ خزانے لُوث لے گا۔

⁷ تیرے تمام اتحادی تجھے ملک کی سرحد تک بہگا دیں گے، تیرے دوست تجھے فریب دے کر تجھے پر غالب آئیں گے۔ بلکہ تیری روٹی کھانے والے ہی تیرے لئے پہندا لگائیں گے، اور تجھے پتا نہیں چلے گا۔“

⁸ رب فرماتا ہے، ”اُس دن میں ادوم کے داشن مندوں کو تباہ کر دوں گا۔ تب عیسَوَ کے پھرائی علاقے میں سمجھے اور عقل کا نام و نشان نہیں رہے گا۔

⁹ اے تیان، تیرے سورمے بھی سخت دھشت کھائیں گے، کیونکہ اُس وقت عیسَوَ کے پھرائی علاقے میں قتل و غارت عام ہو گی، کوئی نہیں بچے گا۔

¹⁰ تو نے اپنے بھائی یعقوب[†] پر ظلم و تشدد کیا، اس لئے تیری خوب رُسوئی ہو جائے گی، تجھے یوں مٹایا جائے گا کہ آئندہ تیرانام و نشان تک نہیں رہے گا۔

¹¹ جب اجنبی فوجی یروشلم کے دروازوں میں گھس آئے تو تو فاصلے پر کھڑا ہو کر ان جیسا تھا۔ جب انہوں نے تمام مال و دولت چھین لیا، جب انہوں نے قرعہ ڈال کر اپس میں یروشلم کو بانٹ لیا تو تو نے ان کا ہی رویہ اپنا لیا۔

¹² تجھے اپنے بھائی کی بد قسمتی پر خوشی نہیں منافی چاہئے تھی۔ مناسب نہیں تھا کہ تو یہوداہ کے باشندوں کی تباہی پر شادیانہ بجا تا۔ ان کی مصیبت دیکھ کر تجھے شیخی نہیں مارنی چاہئے تھی۔

* ۱:۶ عیسَوَ: عیسَوَ سے مراد ادوم ہے۔ † ۱0:۱ یعقوب: یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔

یہ ٹھیک نہیں تھا کہ تو اُس دن تباہ شدہ شہر میں گھس آیا تا کہ یروشلم کی مصیبیت سے لطف اُٹھائے اور ان کا بچا کھچا مال لوث لے۔

¹⁴ کتنی بُری بات تھی کہ تو شہر سے نکلنے والے راستوں پر تاک میں یہ پھی گا تا کہ وہاں سے بھاگنے والوں کو تباہ کرے اور بچے ہوؤں کو دشمن کے حوالے کرے۔

¹⁵ کیونکہ رب کا دن تمام اقوام کے لئے قریب آگاہ ہے۔ جو سلوک تو نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی سلوک تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ تیرا غلط کام تیرے اپنے ہی سر پر آئے گا۔

اللہ کی قوم نجات پائے گی

¹⁶ پہلے تمہیں میرے مُقدس پہاڑ پر میرے غضب کا پالہ پینا پڑا، لیکن اب تمام دیگر اقوام اُسے پیتی رہیں گی۔ بلکہ وہ اُسے پی کر خالی کریں گی، انہیں اُس کے آخری قطرے بھی چانٹنے پڑیں گے۔ پھر ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، ایسا لگے گا کہ وہ کبھی تمہیں نہیں۔

¹⁷ لیکن کوہِ صیون پر نجات ہو گی، یروشلم مُقدس ہو گا۔

تب یعقوب کا گھر انہا[‡] دوبارہ اپنی موروٹی زمین پر قبضہ کرے گا، اور اسرائیلی قوم[§] بھڑکتی آگ بن کرادوم کو بھوسم کی طرح بھسم کرے گی۔ ادوم کا ایک شخص بھی نہیں بچے گا۔ کیونکہ رب نے یہ فرمایا ہے۔

¹⁹ تب نجب یعنی جنوب کے باشندے ادوم کے پہاڑی علاقے پر قبضہ کریں گے، اور مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے کے باشندے فلستیون کا

[‡] ۱:۱۷ یعقوب کا گھر انہا: 'یعقوب کا گھر انہا' سے مراد اسرائیل ہے۔ [§] ۱۸:۱ اسرائیلی قوم:

لغتی ترجمہ: یعقوب اور یوسف کے گھر انہے۔

علاقہ اپنالیں گے۔ وہ افرائیم اور سامریہ کے علاقوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ جلعاد کا علاقہ بن یمین کے قبیلے کی ملکیت بنے گا۔

²⁰ اسرائیل کے جلاوطنوں کو کنعانیوں کاملک شمالی شہر صارپت تک حاصل ہو گا جبکہ یروشلم کے جو باشندے جلاوطن ہو کر سفاراد میں جا بسے وہ جنوبی علاقے نجپ پر قبضہ کریں گے۔

²¹ نجات دینے والے کوہ صیون پر آ کر ادوم کے پہاڑی علاقے پر حکومت کریں گے۔ تب رب ہی بادشاہ ہو گا!“

مقدّس کتاب

The Holy Bible in Urdu, Urdu Geo Version, Urdu Script

Copyright © 2019 Urdu Geo Version

Language: اردو (Urdu)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2024-09-26

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 5 Apr 2025 from source files dated 26 Sep 2024

1fad1a5f-0be2-546a-99c1-b08aa9c23046